

Rev

Chapter 18

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα
بعد ان میں-نے دیکھا اور فرشتہ اترتا-ہوا سے اُس آسمان رکھتا-ہوا
[G3326](#) [G3778](#) [G3708](#) [G0243](#) [G0032](#) [G2597](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#) [G2192](#)
- ἐξουσίαν μεγάλην; καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ.
اختیار بڑا اور وہ زمین روشن-ہوئی سے اُس جلال اُس-کے
[G1849](#) [G3173](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1093](#) [G5461](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#)

گئی۔ بو روشن سے جلال کے اُس زمین اور تھا حاصل اختیار بہت اُسے تھا۔ رہا اتر سے پر آسمان جو دیکھا فرشتہ اور ایک نے میں بعد کے اس

- 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ, λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλῶν ἡ
اور پکارا سے زوردار آواز کھتا-ہوا گرا گرا بابل وہ
[G2532](#) [G2896](#) [G1722](#) [G2478](#) [G5456](#) [G3004](#) [G4098](#) [G4098](#) [G0897](#) [G3588](#)
- μεγάλη! καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων, καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος
بڑا اور ہوا بسیرا بدروحوں-کا اور قیدخانہ ہر روح-کا
[G3173](#) [G2532](#) [G1096](#) [G2732](#) [G1140](#) [G2532](#) [G5438](#) [G3956](#) [G4151](#)
- ἀκαθάρτου, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου, «καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου
ناپاک اور قیدخانہ ہر پرندے-کا ناپاک اور قیدخانہ ہر حیوان-کا
[G0169](#) [G2532](#) [G5438](#) [G3956](#) [G3732](#) [G0169](#) [G2532](#) [G5438](#) [G3956](#) [G2342](#)
- ἀκαθάρτου» καὶ μεμισημένου.
ناپاک اور نفرت-کیے-ہوئے
[G0169](#) [G2532](#) [G3404](#)

اور ناپاک ہر ہے، گئی بن بسیرا کا بدروح ہر اور گھر کا شیاطین وہ اب ہے! گئی گر بابل کسبی عظیم ہاں، ہے! گئی گر وہ کہا، کر پکار سے آواز اونچی نے اُس بسیرا۔ کا پرندے گھنوںے

- 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς, πέπωκαν πάντα
کیونکہ سے اُس مے-سے اُس غضب-کے اُس حرامکاری-کے اُس-کی پیا ساری
[G3754](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G4202](#) [G0846](#) [G4095](#) [G3956](#)
- τὰ ἔθνη; καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ' αὐτῆς ἐπόρνευσαν; καὶ
وہ قوموں-نے اور اُن بادشاہوں-نے اُس زمین-کے اُس ساتھ اُس-کے زنا-کیا اور
[G3588](#) [G1484](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0935](#) [G3588](#) [G1093](#) [G3326](#) [G0846](#) [G4203](#) [G2532](#)
- οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνου αὐτῆς,
وہ تاجروں-نے اُس زمین-کے سے اُس طاقت اُس عیش-کی اُس-کی
[G3588](#) [G1713](#) [G3588](#) [G1093](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1411](#) [G3588](#) [G4764](#) [G0846](#)
- ἐπλούτησαν.
امیر-ہوئے
[G4147](#)

ہے لگام کی اُس سوداگر کے زمین اور کہا زنا ساتھ کے اُس نے بادشاہوں کے زمین ہے۔ لی پی مے کی مستی اور حرامکاری کی اُس نے قوموں تمام کیونکہ ہیں۔ گئے ہو امیر سے عیاشی

4	Καὶ	ἤκουσα	ἄλλην	φωνήν	ἐκ	τοῦ	οὐρανοῦ,	λέγουσαν,	Ἐξέλθατε	ὁ	
	اور	میں-نے-سنا	اور	آواز	سے	آسمان	آسمان	کہتی-ہوئی	نکلو	اے	
	G2532	G0191	G0243	G5456	G1537	G3588	G3772	G3004	G1831	G3588	
	λαός	μου,	ἐξ	αὐτῆς,	ἵνα	μὴ	συνκοινωνήσητε	ταῖς	ἁμαρτίαις	αὐτῆς,	καὶ
	قوم	میری	سے	اُس	تاکہ	نہ	شریک-بو	اُن	گناہوں-میں	اُس-کے	اور
	G2992	G1473	G1537	G0846	G2443	G3361	G4790	G3588	G0266	G0846	G2532
	ἐκ	τῶν	πληγῶν	αὐτῆς,	ἵνα	μὴ	λάβητε;				
	سے	اُن	وہاؤں	اُس-کے	تاکہ	نہ	پاؤ				
	G1537	G3588	G4127	G0846	G2443	G3361	G2983				

اُس اور جاؤ ہو نہ شریک میں گناہوں کے اُس تم تاکہ آ، نکل سے میں اُس قوم، میری اے کہا، سے طرف کی آسمان نے اُس سنی۔ آواز اور ایک نے میں پھر آئیں۔ نہ پر تم بلائیں کی

5	ὅτι	ἐκολλήθησαν	αὐτῆς	αἱ	ἁμαρτίαι	ἄχρι	τοῦ	οὐρανοῦ,	καὶ
	کیونکہ	جڑ-گئے	اُس-کے	اُس-کے	گناہ	تک	آسمان	اور	
	G3754	G2853	G0846	G3588	G0266	G0891	G3588	G3772	G2532
	ἐμνημόνευσεν	ὁ	Θεὸς	τὰ	ἀδικήματα	αὐτῆς.			
	یاد-کیا	اُس	خدا-نے	اُس-کے	ظلم	اُس-کے			
	G3421	G3588	G2316	G3588	G0092	G0846			

بے۔ کرتا یاد کو بدیوں کی اُن اللہ اور ہیں، گئے پہنچ تک آسمان گناہ کے اُس کیونکہ

6	ἀπόδοτε	αὐτῇ	ὡς	καὶ	αὐτὴ	ἀπέδωκεν;	καὶ	διπλώσατε	τὰ	διπλᾶ,	κατὰ
	دو	اُسے	جیسے	بھی	اُس-نے	دیا	اور	دوگنا-کرو	دوگنا	دوگنا	مطابق
	G0591	G0846	G5613	G2532	G0846	G0591	G2532	G1363	G3588	G1362	G2596
	τὰ	ἔργα	αὐτῆς.	ἐν	τῷ	ποτηρίῳ	ᾧ	ἐκέρασεν,	κεράσατε	αὐτῇ	διπλοῦν.
	اُس-کے	کاموں	اُس-کے	میں	اُس	پیالے	جس	ملا یا	ملاؤ	اُسے	دوگنا
	G3588	G2041	G0846	G1722	G3588	G4221	G3739	G2767	G2767	G0846	G1362

لئے کے پلانے کو دوسروں نے اُس شراب جو دینا۔ اُسے بدلہ دُگنا کا اُس بے کیا نے اُس کچھ جو بے۔ کیا ساتھ تمہارے نے اُس جو کرو سلوک وہی ساتھ کے اُس دینا۔ دے اُسے بدلہ دُگنا کا اُس بے کی تیار

7	ὅσα	ἐδόξασεν	αὐτὴν	καὶ	ἐστρηνίασεν,	τοσοῦτον	δότε	αὐτῇ	βασανισμὸν		
	جتنا	جلال-دیا	اپنے-آپ-کو	اور	عیش-کی	اتنا	دو	اُسے	عذاب		
	G3745	G1392	G0848	G2532	G4763	G5118	G1325	G0846	G0929		
	καὶ	πένθος.	ὅτι	ἐν	τῇ	καρδίᾳ	αὐτῆς	λέγει	ὅτι,	Κάθημαι	βασιλίσα,
	اور	ماتم	کیونکہ	میں	اپنے	دل	اپنے	کہتی-ہے	کہ	بیٹھتی-ہوں	ملکہ
	G2532	G3997	G3754	G1722	G3588	G2588	G0846	G3004	G3754	G2521	G0938
	καὶ	χῆρα	οὐκ	εἰμί,	καὶ	πένθος	οὐ	μὴ	ἴδω.		
	اور	بیوہ	نہیں	ہوں	اور	ماتم	نہ	نہیں	دیکھوں-گی		
	G2532	G5503	G3756	G1510	G2532	G3997	G3756	G3361	G3708		

رانی پر تخت اپنے یہاں میں ہے، کہتی وہ میں دل اپنے کیونکہ کی۔ عیاشی اور بنایا شاندار کو آپ اپنے نے اُس جتنا دو پہنچا غم اور اذیت ہی اتنی اُسے گی۔ کروں ماتم کبھی میں نہ ہوں، بیوہ میں نہ ہوں۔

- 12 γόμον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ λίθου τιμίου, καὶ μαργαριτῶν, καὶ
 اور موتیوں-کا اور قیمتی پتھر-کا اور چاندی-کا اور سونے-کا مال
[G1117](#) [G5557](#) [G2532](#) [G0696](#) [G2532](#) [G3037](#) [G5093](#) [G2532](#) [G3135](#) [G2532](#)
- βυσσίνου, καὶ πορφύρας, καὶ σιρικοῦ, καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον
 لکڑی بر اور سرخ-کا اور ریشم-کا اور ارغوانی-کا اور کتان-کا
[G1039](#) [G2532](#) [G4209](#) [G2532](#) [G4596](#) [G2532](#) [G2847](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3586](#)
- θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
 لکڑی سے برتن اور ہاتھی-دانت-کا برتن اور صنل-کی
[G2367](#) [G2532](#) [G3956](#) [G4632](#) [G1661](#) [G2532](#) [G3956](#) [G4632](#) [G1537](#) [G3586](#)
- τιμιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ σιδήρου, καὶ μαρμάρου,
 قیمتی-ترین اور پیٹل-کا اور لوہے-کا اور سنگ-مرمر-کا
[G5093](#) [G2532](#) [G5475](#) [G2532](#) [G4604](#) [G2532](#) [G3139](#)

اور چیز بر کی دانت ہاتھی لکڑی، خوشبودار کی قسم ہر ریشم، کپڑا، کا رنگ قرمزی اور ارغوانی کتان، باریک موتی، جواہر، قیمت بیش چاندی، سونا، کا ان چیز، ہر کی مرمر سنگ اور لوہے پیٹل، لکڑی، قیمتی

- 13 καὶ κιννάμωμον, καὶ ἄμωμον, καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον, καὶ λίβανον,
 اور دار-چینی اور ایلچی اور بخور اور خوشبو اور لوبان اور
[G2532](#) [G2792](#) [G2532](#) [G0299](#) [G2532](#) [G2368](#) [G2532](#) [G3464](#) [G2532](#) [G3030](#)
- καὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ κτήνη, καὶ
 اور مے اور تیل اور مہدہ اور گبیوں اور مویشی اور اور
[G2532](#) [G3631](#) [G2532](#) [G1637](#) [G2532](#) [G4585](#) [G2532](#) [G4621](#) [G2532](#) [G2934](#) [G2532](#)
- πρόβατα, καὶ ἵππων, καὶ ῥέδων, καὶ σωματῶν, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.
 بھڑی اور گھوڑوں-کا اور گاڑیوں-کا اور بدنوں-کا اور جانیں اور انسانوں-کی
[G4263](#) [G2532](#) [G2462](#) [G2532](#) [G4480](#) [G2532](#) [G4983](#) [G2532](#) [G5590](#) [G0444](#)

انسان۔ یعنی غلام اور رتھ گھوڑے، بھڑیوں، گائے بیل، گندم، مہدہ، بہترین تیل، کا زیتون مے، بخور، مڑ، اگر بتی، مسالا، دار چینی،

- 14 καὶ ἡ ὀπώρα σου, τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ
 اور وہ پھل تیرے اُس خواہش-کی اُس جان-کی چلی-گئی سے تجھ اور
[G2532](#) [G3588](#) [G3703](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1939](#) [G3588](#) [G5590](#) [G0565](#) [G0575](#) [G4771](#) [G2532](#)
- πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ
 ساری وہ چکنی اور وہ چمکدار فنا-ہو-گئی سے تجھ اور اب-اور نہ
[G3956](#) [G3588](#) [G3045](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2986](#) [G0622](#) [G0575](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3765](#) [G3756](#)
- μὴ αὐτὰ εὐρήσουσιν.
 نہیں انہیں گے پائیں-گے
[G3361](#) [G0846](#) [G2147](#)

بھی کبھی آئندہ اور بے گئی ہو غائب شوکت و شان اور دولت تمام تیری ہے۔ گیا ہو دُور سے تجھ وہ تھی چاہتی تُو پھل جو گے، کہیں سے اُس سوداگر گی۔ جائے نہیں پائی پاس تیرے

- 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν
 وہ تاجر ان جو امیر-ہوئے سے اُس سے دور
[G3588](#) [G1713](#) [G3778](#) [G3588](#) [G4147](#) [G0575](#) [G0846](#) [G0575](#) [G3113](#)
- στήσονται, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,
 کھڑے-ہوں-گے سے اُس خوف اُس عذاب-کے اُس-کے اور روتے-ہوئے اور ماتم-کرتے-ہوئے
[G2476](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5401](#) [G3588](#) [G0929](#) [G0846](#) [G2799](#) [G2532](#) [G3996](#)

ماتم کر رو رو وہ گے۔ جائیں ہو کھڑے دُور دُور مارے کے خوف کر دیکھ اذیت کی اُس وہ ہوئے مند دولت سے کرنے فروخت چیزیں یہ اُسے سوداگر گے کریں

16 λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσιον, کتان کہتے-ہوئے افسوس افسوس اے شہر اے بڑے جو پہنی-تھی G3004 G3759 G3759 G3588 G4172 G3588 G3173 G3588 G4016 G1039

καὶ πορφυροῦν, καὶ κόκκινον; καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ, καὶ λίθῳ اور ارغوانی اور سرخ اور سنہرے-سے-مڑھی سے سونے اور پتھر-سے G2532 G4210 G2532 G2847 G2532 G5558 G1722 G5553 G2532 G3037

τιμίῳ, καὶ μαργαρίτῃ! موتی-سے اور قیمتی G5093 G2532 G3135

سونے، جو اور تھی تی پھر پہنے کپڑے کے رنگ قرمزی اور ارغوانی کتان، باریک پہلے جو خاتون اے شہر، عظیم اے افسوس، پر تجھ بائے! گے، کہیں اور تھی۔ہوئی سچی سے موتیوں اور جواہر قیمتی

17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἡρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης, کیونکہ ایک گھڑی ویران-ہو-گئی وہ اتنی دولت اور ناخدا G3754 G1520 G5610 G2049 G3588 G5118 G4149 G2532 G3956 G2942

καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν اور ہر جو کہیں جگہ چلنے-والا اور ملاح اور جتنے اُس سمندر G2532 G3956 G3588 G1909 G5117 G4126 G2532 G3492 G2532 G3745 G3588 G2281

ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν, کام-کرتے-ہیں سے دور کھڑے-ہوئے G2038 G0575 G3113 G2476

سے کرنے سفر پر سمندر جو لوگ تمام وہ اور ملاح ہر مسافر، سمندری ہر کپتان، کا جہاز بحری ہر ہے! گئی ہو تباہ دولت ساری اندر اندر کے گھنٹے ہی ایک گے۔جائیں ہو کھڑے دُور دُور سب وہ ہیں کماٹے روزی اپنی

18 καὶ ἔκραζον, βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς کون کہتے-ہوئے اُس-کے جلنے-کا اُس دھواں وہ دیکھتے-ہوئے چلاتے-تھے اور G2532 G2896 G0991 G3588 G2586 G3588 G4451 G0846 G3004 G5101

ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ? بڑے اُس شہر-کے اُس مشابہ G3664 G3588 G4172 G3588 G3173

تھا؟ شہر عظیم اتنا کوئی کبھی کیا گے، کہیں وہ کر دیکھ دھواں کا جلنے کے اُس

19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἔκραζον, κλαίοντες καὶ اور ڈالی خاک پر اپنے سروں اپنے اور اور چلاتے-تھے روتے-ہوئے اور G2532 G0906 G5522 G1909 G3588 G2776 G0846 G2532 G2896 G2799 G2532

πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ماتم-کرتے-ہوئے کہتے-ہوئے افسوس افسوس اے شہر اے بڑے جس-میں جس G3996 G3004 G3759 G3759 G3588 G4172 G3588 G3173 G1722 G3739

ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσῃ ἐκ τῆς امیر-ہوئے سب جو رکھنے-والے وہ جہاز میں اُس سمندر سے اُس G4147 G3956 G3588 G2192 G3588 G4143 G1722 G3588 G2281 G1537 G3588

τιμιότητος αὐτῆς! ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἡρημώθη. قیمت اُس-کی کیونکہ ایک گھڑی ویران-ہو-گئی G5094 G0846 G3754 G1520 G5610 G2049

دولت کی جس شہر، عظیم اے افسوس، پر تجھ بائے! گے، کہیں وہ گے۔ کریں زاری و آہ اور گے روئیں کر چلا چلا اور گے لبس ڈال خاک پر سروں اپنے وہ ہے۔ گیا ہو ویران وہ اندر اندر کے گھنٹے ہی ایک ہوئے۔ امیر مالک کے جہازوں بحری تمام سے

20 Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῆ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι, καὶ οἱ ἀπόστολοι, καὶ
خوش-بو پر اُس اور اے اور مقدسو اور اے رسولو اور اور
G2165 G1909 G0846 G3772 G2532 G3588 G0040 G2532 G3588 G0652 G2532

οἱ προφήται; ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.
اے نبیو کیونکہ فیصلہ-کیا اُس خدا-نے تمہارا مقدمہ تمہارا سے اُس
G3588 G4396 G3754 G2919 G3588 G2316 G3588 G2917 G4771 G1537 G0846

اے۔ کی عدالت کی اُس خاطر تمہاری نے اللہ کیونکہ مناؤ! خوشی نبیو، اور رسولو مُقدسو، اے منا! خوشی کر دیکھ اُسے آسمان، اے

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον, ὡς μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν
اور اُٹھایا ایک فرشتے-نے زوردار پتھر جیسے چکی-کا بڑا اور پھینکا
G2532 G0142 G1520 G0032 G2478 G3037 G5613 G3458 G3173 G2532 G0906

εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλῶν ἡ μεγάλη
میں اُس سمندر کہتا-ہوا ایسے زور-سے پھینکی-جائے-گی بابل وہ بڑی
G1519 G3588 G2281 G3004 G3779 G3731 G0906 G0897 G3588 G3173

πόλις, καὶ οὐ μὴ εὐρεθῆ ἔτι.
شہر اور نہ نہیں پائی-جائے-گی پھر
G4172 G2532 G3756 G3361 G2147 G2089

ہی اتنی کو بابل شہر عظیم کیا، نے اُس دیا۔ پھینک میں سمندر کر اُٹھا کو پتھر بڑے ایک مانند کی پاٹ کے چگی بڑی نے فرشتے ور طاقت ایک پھر
گا۔ جائے پایا نہیں کہیں اُسے میں بعد گا۔ جائے دیا پٹک سے زبردستی

22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν, καὶ μουσικῶν, καὶ αὐλητῶν, καὶ σαλπιστῶν,
اور آواز کی بربط-نوازوں-کی اور موسیقاروں-کی اور بانسری-والوں-کی اور نرسنگا-والوں-کی
G2532 G5456 G2790 G2532 G3451 G2532 G0834 G2532 G4538

οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι; καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης, οὐ
نہ نہیں سنائی-جائے-گی میں تجھ پھر اور کوئی کاریگر کسی بنر-کا نہ
G3756 G3361 G0191 G1722 G4771 G2089 G2532 G3956 G5079 G3956 G5078 G3756

μὴ εὐρεθῆ ἐν σοὶ ἔτι; καὶ φωνὴ μύλου, οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν
میں سنائی-جائے-گی نہیں پاپا-جائے-گا نہیں میں تجھ پھر اور آواز کی چکی-کی نہ نہیں سنائی-جائے-گی میں
G3361 G2147 G1722 G4771 G2089 G2532 G5456 G3458 G3756 G3361 G0191 G1722

σοὶ ἔτι;
تجھ پھر
G4771 G2089

پایا میں تجھ گر کاری کا کام بھی کسی سے اب کی۔ والوں بجائے ٹرم یا بانسری سرود، نہ گی، دیں سنائی کبھی میں تجھ آوازیں کی موسیقاروں نہ سے اب
گی۔ جائے ہو بند لئے کے ہمیشہ آواز کی چگی ہاں، گا۔ جائے نہیں

23 καὶ φῶς λύχνου, οὐ μὴ φάνη ἐν σοὶ ἔτι; καὶ φωνὴ νυμφίου
اور روشنی چراغ-کی نہ نہیں چمکے-گی میں تجھ پھر اور آواز کی دولہے-کی
G2532 G5457 G3088 G3756 G3361 G5316 G1722 G4771 G2089 G2532 G5456 G3566

καὶ νύμφης, οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι; ὅτι οἱ ἔμποροὶ σου
اور دولہن-کی نہ نہیں سنائی-جائے-گی میں تجھ پھر کیونکہ تیرے تاجر تیرے
G2532 G3565 G3756 G3361 G0191 G1722 G4771 G2089 G3754 G3588 G1713 G4771

ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου, ἐπλανήθησαν
تھے وہ بڑے-لوگ اُس زمین-کے کیونکہ سے تیرے جادو تیرے گمراہ-ہوئیں
G1510 G3588 G3175 G3588 G1093 G3754 G1722 G3588 G5331 G4771 G4105

πάντα τὰ ἔθνη.
ساری وہ قومیں
G3956 G3588 G1484

تیری اور تھے، افسر بڑے بڑے کے دنیا سوداگر تیرے ہائے، گی۔ دے نہیں سنائی میں تجھ آواز کی دولہے ڈلھن گا، کرے نہیں روشن تجھے چراغ سے اب
گیا۔ بہکایا کو قوموں تمام سے جادوگری

24 καὶ ἐν αὐτῇ, αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὐρέθη, καὶ πάντων τῶν
اور میں اُس خون نبیوں-کا اور مقدسوں-کا پایا-گیا اور سب اُن
[G2532](#) [G1722](#) [G0846](#) [G0129](#) [G4396](#) [G2532](#) [G0040](#) [G2147](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#)
ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.
ذبح-کیے-بوؤں-کا پر اُس زمین
[G4969](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#)

بیں۔ گئے ہو شہید پر زمین جو بے گیا پایا خون کا لوگوں تمام اُن اور مُقدّسین نبیوں، میں بابل ہاں،